



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 21/12/2022

گورنر HOCHUL کے دستخط سے تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ، قانون میں تبدیل

قانون سازی (S.8922A/A.10020A) کام کی رفتار کے ڈیٹا سے باخبر کرنا ضروری قرار دیتی ہے اور اس میں ان کارکنان کے لیے تحفظات شامل ہیں جو کام کی رفتار کے اخفاء شدہ یا غیر قانونی کوٹے پورے کرنے میں ناکام رہتے ہیں

گورنر Kathy Hochul نے آج تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ (S. 8922/A. 10020) پر دستخط کے ذریعے اسے قانون میں تبدیل کر دیا۔ یہ قانون سازی ویئر ہاؤس تقسیم کار کارکنان کو کام کی رفتار کے اخفاء شدہ یا غیر قانونی کوٹے سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اس میں ان کارکنان کے لیے تحفظ شامل ہے جو غیر قانونی کوٹوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔

"ریاست نیو یارک میں ہر کارکن انصاف، وقار اور احترام پر مبنی سلوک کا حقدار ہے،" گورنر Hochul نے کہا۔ "ہم چھٹیاں تحائف اور پیکجس کے ساتھ مناتے ہیں، اسی لیے مجھے ویئر ہاؤس کے محنتی کارکنان کے تحفظ میں اضافے کے لیے تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ کی بذریعہ دستخط قانون میں تبدیلی پر فخر ہے۔"

تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ (S. 8922A/A.10020A) کا مقصد ویئر ہاؤس کارکنان کو کام کے غیر معقول طور پر مطالباتی کوٹوں سے تحفظ دینا ہے۔ نیا قانون تقسیم کار مراکز کے لیے ان تقاضوں کو متعارف کروانے گا کہ جن کے تحت وہ اپنے موجودہ اور سابق کارکنان کو کام کی رفتار کے ڈیٹا سے باخبر کرنے کے پابند ہوں گے تاکہ کارکنان کو ان کی کارکردگی اور کام کی جگہ پر ان کے حقوق سے آگاہ کیا جا سکے۔ قانون سازی کارکنان کو منفی ملازمتی اقدامات سے بھی تحفظ فراہم کرے گی، جیسا کہ صرف اس وجہ سے تادیبی کارروائی یا برطرفی کہ وہ رفتار کے خفیہ حوالوں یا ایسے کوٹوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئے جو انہیں باقاعدہ چھٹی لینے کی اجازت نہیں دیتے۔

ریاستی سینیٹر Jessica Ramos نے کہا، "تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ کو اختتامی لکیر تک لانے کے ذریعے، ہم یہ یقینی بنا چکے ہیں کہ Amazon اور UPS جیسے ادارے اپنے کارکنان سے ہر ممکن حد تک فوائد نچوڑنے کے بعد، انہیں اپنے زخموں سے لڑنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ویئر ہاؤس کے ہر کارکن کے پیچھے ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے جو ان پر انحصار کرتی ہے، جو کام سے ان کے بخیریت گھر کو لوٹنے کی صلاحیت پر انحصار کرتی ہے۔ میں اکثریتی رہنما Andrea Stewart-Cousins کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے Amazon مزدور یونین سے ملاقات کی تاکہ ہم قانون سازی کے لیے حمایت حاصل کر سکیں، اور گورنر Hochul کے تحفظ کارکن تحفظات کے عزم کی تائید کے لیے ان کی شکر گزار ہوں۔ یہ تیزی سے پھیلتے نوکری کے ایک شعبے میں زخمی ہونے کے بے قابو واقعات سے نمٹنے کی جانب پہلا قدم ہے، اور میں آئندہ اجلاس میں مزدور تحریک کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھنے کی منتظر ہوں۔"

رکن اسمبلی Latoya Joyner نے کہا، "تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ کام کی جگہ پر حفاظتی اقدامات کو نافذ کرتا ہے اور ای کامرس کی دنیا میں Amazon جیسے بڑے ناموں کے غیر محفوظ کام کی روایات میں ملوث ہونے کے لیے ترغیبات کو ختم کرتا ہے۔ یہ قانون سازی بوجھ ڈالنے والے کوٹوں کے استعمال میں انتہائی درکار، شفافیت لاتی

ہے اور تحفظ کارکنان میں اضافہ کرتی ہے۔ میں گورنر Hochul کو بے حد سراہتی ہوں کہ انہوں نے اس پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دی۔"

ریٹیل، بول سیل، اور ڈیپارٹمنٹ اسٹور یونین کے صدر **Stuart Appelbaum** نے کہا کہ، "ویئر ہاؤس کارکنان کو دباؤ سے پہنچنے والے زخموں اور لامحدود کوٹوں کے سبب ہونے والی بیماریوں سے تحفظ دینا RWDSU کی طویل عرصے سے ترجیح رہی ہے اور اسی لیے ہم نے تحفظ ویئر ہاؤس کارکن ایکٹ (WWPA - A10020/S8922) کو متعارف کروانے کے لیے زور ڈالا۔ ویئر ہاؤس کی سہولت گاہیں نیو یارک بھر میں حیران کن تعداد میں ابھر رہی ہیں؛ صرف Amazon ریاست میں 70 سے زائد مراکز کھول چکا ہے اور ان میں سے نصف سے زائد مراکز جنوری 2021 کے بعد تعمیر ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ، ہم نے ویئر ہاؤس کارکنان کی زخمی ہونے کی شرح میں بھی اضافہ دیکھا ہے۔ کام کے انتہائی نوعیت کے کوٹوں کی وجہ سے، ویئر ہاؤس کارکنان کو دل کے دورے، فالج، پٹھوں کی مسلسل حرکت سے پہنچنے والی چوٹیں اور تاعمر جاری رہنے والے ناقابل علاج جوڑوں اور کمر کے درد کا سامنا ہوا ہے۔ آج، کارکنان کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے۔ گورنر Hochul اس بل کو قانون کا حصہ بنانے پر آپ کا شکریہ۔ WWPA ان کارکنان کی مدد کرنا شروع کر سکتا ہے جنہیں ہمیشہ سے زیادہ اب، اس قانون کی ضرورت ہے۔"

ٹیمزٹرز مشترکہ کونسل 16 کے صدر **Thomas Gesualdi** نے کہا کہ، "ٹیمزٹرز کے ارکان ویئر ہاؤس کی صنعت میں مضبوط حفاظتی معیار کے لیے دہائیوں پر محیط لڑائی کر چکے ہیں، لیکن Amazon کی بڑھوتی کارکنان کو ایک بار پھر خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ ہم تحفظ ویئر ہاؤس کارکنان ایکٹ کے ذریعے تمام ویئر ہاؤس کمپنیوں کے لیے حفاظتی کی بنیادی سطح متعارف کروانے پر گورنر Hochul، بل کے اسپانسرز سینیٹر Ramos اور رکن اسمبلی Joyner، اور قانون ساز رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام ویئر ہاؤس کارکنان کے حقوق اور اجتماعی قول و قرار کہ جس سے انہیں ملازمت میں اپنی آواز بلند کرنے اور اپنے آپ کو تحفظ دینے کا حق مل سکے، اس کے لیے ہماری مسلسل جاری جنگ میں ایک حقیقی فتح ہے۔"

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418